

\_\_\_\_\_, 20\_\_\_\_  
Date

TO: \_\_\_\_\_  
\_\_\_\_\_  
\_\_\_\_\_

RE: \_\_\_\_\_  
Name of Child  
\_\_\_\_\_  
NYC ID #  
\_\_\_\_\_  
Date of Birth

Dear \_\_\_\_\_:

I write on behalf of \_\_\_\_\_, parent/guardian of \_\_\_\_\_, a student receiving special education services at your school. Your school has failed to consistently provide \_\_\_\_\_ with appropriate language services in order for him/her to participate in his/her child's education.

Federal, state, and local laws require that New York City schools provide translation and interpretation to a parent whose primary language is not English.

I request that you provide \_\_\_\_\_ with a translation of the procedural safeguards notice, as well as all documents and notices (including meeting notices, final notices of recommendation, and notices of consent for evaluation) from this point forward. I specifically request that you translate the most recent:

- 1. Individualized Education Program (IEP)
- 2. Special education evaluation reports
- 3. Report card
- 4. Student progress reports

I also request that you provide \_\_\_\_\_ with interpretation services at all future meetings.

Please update your records to indicate that \_\_\_\_\_'s primary language is \_\_\_\_\_.

Please contact me at \_\_\_\_\_ should you require additional information or to discuss this matter.

Sincerely,  
  
\_\_\_\_\_

cc: Office of Family Engagement and Advocacy  
Phone: 212-374-2323/Fax: (212) 374-0138  
CSE \_\_\_\_

[تاریخ]

[پتہ]

بحوالہ: [بچہ کا نام]

[نیویارک شہر کا شناختی نمبر]

[تاریخ پیدائش]

عزیزم [معاون والدین یا ناظم اسکول] :

میں کی جانب سے لکھ رہا ہوں، جو [بچہ] کا [والد/ نگہبان] ہے، جو آپ کے اسکول میں خصوصی [والدین]

تعلیمی سہولیات حاصل کرنے والا ایک طالب علم ہے۔ آپ کا اسکول [والدین] کو تواتر کے ساتھ مناسب لسانی سہولیات فراہم کرنے میں ناکام رہا ہے جس سے وہ اپنے بچہ کی تعلیم میں شرکت کر سکے۔

وفاقی ریاست، اور مقامی قوانین کا تقاضا ہے کہ نیویارک شہر کے اسکول ان والدین کو جن کی مادری زبان انگریزی نہیں ہے، ترجمہ اور وضاحت کی سہولت مہیا کریں۔

میری گزارش ہے کہ آپ مجھے حفاظتی تدابیر کے نوٹس کا ترجمہ فراہم کریں، اور اب کے بعد تمام دستاویزات اور نوٹس بھی (بشمول ملاقات کے نوٹس، مشورہ کے حتمی نوٹس اور جانچ کی اجازت کے نوٹس)۔ میری خاص درخواست ہے کہ آپ تازہ ترین کا ترجمہ کر کے بھیج دیں۔

- 1. انفرادی تعلیمی پروگرام (IEP)
- 2. خصوصی تعلیمی جانچ کی رپورٹیں
- 3. رپورٹ کارڈ
- 4. طالب علم کی کارکردگی کی رپورٹ

میری یہ بھی گزارش ہے کہ آپ اگلی تمام ملاقاتوں میں [والدین] کو وضاحت کی سہولیات مہیا کریں۔

برائے مہربانی اپنے اندراج کو [والدین] کی مادری زبان [اردو] کے مطابق تبدیل کر لیں۔

اگر آپ کو اس مسئلہ کے بارے میں بات کرنی ہو یا کوئی اضافی معلومات درکار ہوں تو برائے مہربانی مجھ سے [ ] پر رابطہ کریں۔

مخلص،

[وکیل]

نقل: خاندانی مصروفیت اور وکالت کا دفتر (Office of Family Engagement and Advocacy)

فون: (212)-374-2323 فیکس: (212) 374-0138

\_\_\_CSE